

English Translation Test-1

Time Allowed: 40Minutes

Note:

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: _____	Batch: _____
Campus: _____	

**Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.
(10)**

اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپکی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسطرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں برائی کے راستے پر جانے سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالح بننا مسلسل تذکیہ اور مجاہدے کا عمل ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں۔

does not allure

If the world is not alluring you,
if your eyes water
If tear comes into your eyes due
to fear of Allah, if ~~an~~ idea of
hell instills fear of Allah in you,
it ought be done
If you worship Allah the way He
should, if the goodness attracts you
and you stop travelling on the wrong
path, then you are pious. Some are ^{born}
pious while others becomes ^{PIOUS}. Being
pious is a fortunate ^{thing} deed. To be a
pious is an act of continuous
sanctification and ^{Struggle} concentration. It
takes time and you have to face
the hurdles too.